

	کرمیں،خدمت کرنے کوایک کرا ہوا کا م سمہ	خدمت کروانی ہیں،جبکہ خادمہ بہت تنگِ	یہیوں ی <i>طر</i> طام تھا۔اس کے بےرق	کی سرکار کی طرف سے ایسے جلوس اور	مذمت کرنا حایتے تھے جس کے خوتی	تھ،۔ وہ قدم	مبارك
سے دعا کر تی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری	•• •	دست اور مجبور ہو تی ہیں وہ دوسروں کی	سے بچہ کوڈنڈے سے پیٹنانٹر <i>د</i> ع کردیا۔وہ	جلسوں پر پابندی عائد ہے، یہ سطین نہیں	ہاتھوں بسے ان تنیں دنوں میں دس ہزار	سے قدم ملائے راستے پر چکتے جا رہے	۔ مبارک ہؤ، سارے بچے اس
	خدمت مریض کے لئے دوا ہے اور	خدمت کر کے اپنے گھر کاخرچ چلاتی ہیں	لڑ کا اپنے ایمان اور عزم میں نڈر تھا۔ وہ مار	ہے، بیالیک جمہوری ملک ہے، یہاں کے	سے زائد ^{فلسطی} نی شہید ہو چکے تھے۔شہید	تھے۔وہ چاہتے تھے کہاللہ تعالی ان کے اس	ارداں کی آواز سے آواز ملا کرایک
خدمت کرنے والی بنائے۔ آمین ۔	میرے لئے دعاہے،اس سےاخلاق بھی	، یہاں تک اپنے والدین کی بھی خدمت ا	کھا تارہا۔	آئىيناورقانون يرغمل سيجيح ورنەآپ سب	ہونے والوں میں بچوں کی تعداد جار ہزار	مجاہدانہ بڑھتے ہوئے قدموں کے تلے کی	ینعرہ لگارہے تھے۔بچوں کےاس
		کرتی ہیں ،لیکن کچھ خاتون اپنے والدین		کواسی وقت حراست میں لےلیا جائے گا،	کے قریب اور خواتین کی تعداد ڈھائی ہزار	زمین کو کیچیج کرغزہ کے میدان جنگ میں	یں کوراہتے پر کھڑے ہرمسلمان
1		کی بھی خدمت کرنا پہند نہیں کرتیں۔	اس کا جذبہ ایمان یہی کہتا	بيسركاركي طرف سيحكم نامه ہے۔	سے بھی زیادہ ہے۔ وہ درندے آج بھی	ڈال دے۔ وہ سب اپنے ^{فلسطی} نی بھائئیوں	ن ما ئىي آنكھيں پچاڑ پچاڑ كرد مكير
*	17 DAG	میں جب شادی کر کے	رہا'' میں فلسطین ہوں'' ، میں اپنے ملک کی	اب یہ جلوں بچوں کے	غزہ کی گھنی آبادی پر توپ کے گولے چھوڑ	کے ساتھ اس ہولناک جنگ میں شریک	۔ایسالگتاتھا کہ بیجلوں پہاڑکے
A		ایپنے سسرال آئی تو میری ساس کہا کر تی	کھلی آ زادی جاہتا ہوں، چاہےتم مجھے جتنا	حوصلوں کود کیھ کرایک بڑی سیلانی بھیڑ میں	رہے تھے۔ وہ سب مسلمان دشمن مما لک	ہونا چاہتے تھے۔ان کے دلوں میں دشمنوں	كِرِنْكَلا ہو۔ پیچنونی جلوس ابا بیلوں
	N PAR	تھیں کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے وہ	تباه و بر باد کردو ـ میری نسلوں کوختم کردو، پھر		۔ بےخلاف ان کی سرزنش کرنا چاہتے تھے جو	کوتہہ نیغ کرنے کا مصم ارادہ جاگ اٹھا تھا۔	پنگھ پھیلائے اڑتا جارہا تھا۔
		اپنے لئے کرتا ہے۔ میں من ہی من میں	,	تبدیل ہو چکی تھی۔ اس میں ہر درجہ کے عمر	اس حيوان نما انسأني طاقتون كا اندها	وہ اپنے دینی بھائیوں کوا <i>س طرح ق</i> تل عام	بچوں کے اس پُر جوش جلوس
	A VARANCE T	سوچا کر ٹی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ،	بھی میں زندہ رہوں گااس لئے کہ میرے	کے لوگ شامل ہو چکے تھے۔ پولیس کے	سپورٹ کر رہے تھے جنہیں اس مظلوم	ہوتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتے تھے۔	ِگلی، کوچوں م یں ک <i>ھڑے</i> نوجوان
		دوسرے کی خدمت کرینگے تو اپنے لئے	پاس اللد تعالی کا دیا ہواا یمان کی دولت ہے،	اعلان کے باوجود لوگ ان صیہونی ادر	فلسطینیوں کے قتل عام پر کوئی ترس نہیں	سب کی آنگھول سے خون کے آنسو بہہ	کی انا کیوں کرطیش میں نہ آتی۔
		کیسے ہوگا ، کیکن اب شمجھ میں آیا کہ بات	جہاد کاعظیم خزانہ عامرہ ہے۔ جسے کوئی نہیں	فسطائی طاقتوں کے خلاف اپنے پُر جوش	کھارہا تھا۔ ساری دنیا کے انصاف و	رہے تھے۔اس سخت دھوپ میں نہ کسی کو	بچ آگے آگے ان کے پیچھیے
		میری ساس کی بالکل کیچیج کھی کہ جب ہم	مٹا سکتا ہے۔ سوائے اس باری تعالیٰ کہ جو	•	انسانیت پرست ممالک اس جنگ کو بند	پیاس لگ رہی تھی اور نہ کسی کے چہرے پر	کی جماعت شامل ہوگئی تھی۔'اللَّد
- (B1X)		کسی خدمت کرینگے بھی تو میرے دفت	•	نعروں کا مظاہر ے کرتے رہے۔ ہرطرف	کرنے کی اپیل کررہے تھے۔مگرانتہا پسند	تھکاوٹ کا شائبہ تھا۔وہ آبادی کے سارے	روں سے بیچلوں ہواؤں پر تیرر ہا
		پر کوئی کام آئے گا۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے،	سب کا مالک کل ہے۔ دوسری طرف فضا میں ایک سب میں	یے فلسطین زندہ باد۔۔۔فلسطین زندہ باد،	طاقتیں،اپنی خون ریزی سے بازنہیں آ رہی	رائیے پرجلوس کئے چکر لگارہے تھے۔ان	بڑھتے ہوئے جلوس میں طرح
1 127 7		مریض کے پاس جنٹی دیررہو گے گویاباغ	میں بیخطیم نعرہ اب بھی ترشح تھا۔مظلوم	کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔اتنے میں پولیس	تنھیں۔ ہر ردز مظلوم فلسطینیوں کے خون	کی آنکھوں کے سامنے فلسطین کی قیامت	ے نعرے بلند ہو رہے تھے۔
1 Tin 1		جنت میں رہو گے، مریض کے پاس	فلسطينيول، تمهميں شهدا ہونا مبارک	والے آپے سے باہر ہو گئے۔اس نے اس	<i>سے ہ</i> ولی کھیلی جارہی تھی۔ دنیا کی حالت	خیز میدان جنگ کامنظرناچ رہاتھا۔ابان	شهپدو <i>ں ش</i> ہیں یہ جام شہادت
11		رہنے سے اس کی عیادت کرنے سے	ہو۔۔۔یتمہیں شہداہونامبارک ہو	•	اب تیسری عالمی جنگ کے پس پردہ پر	كاجلوس نكر بريبهنجنے والاتھاجہاں بڑى شاہراہ	د،' العہلی ہیپتال کے شہیدوں
		جب اتنا ثواب ہے تواس کی خدمت کر	·9903651585	مجاہد بچہ کے ہاتھوں سے حصنڈا چھین لیا۔ ۔	آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جلوس بڑی شاہراہ	مانی تھی۔ وہ نتھا سپاہی اب بھی ایک	یه جام شهادت مبارک هؤ،
		نے کا کتنا نواب ہوگا ۔ آج کل بہت ^س	3303031303	کچھ پولیس والوں نے کئی بچوں کے ماتھے	کے موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا۔اختتامی کاروائی کو	وہ نتھا سپاہی اب بھی ایک	ب کے مظلوم شہیدوں تمہیں بیر
اگل مربی اگر واقعی اللہ سرلواگا ئیں تو	یہی ہے کہ پہلےاپنے جانورکوکھو نٹے میں					کھڑے ہوکرآ گاورخون میںصدائیں	نبیاء جس ^{فلسطی} ن کے نام سے
ی دہے ہیں، روس کہ میرے روس کی د بیغیبی صدا کان میں نہیں سنائی دے گی تو	•			lit Br	11:	لگارہے ہیں کہاے اہل عرب تم کہاں ہو	
	•	ریسےدعا می !!!	سے پارانہ کی اور اللہ	دی بی اورطام نے	مطلوم سے ،کدر		
دل میں سنائی دیے گی کہ اے میرے	بندكرو پھردعا كروكہا باللہ ميرے مال و			ی بھی اور طالم ب ایڈیھری در کا ہزیں		بيت المُقدَّس كا تقدَّس بإمال كيا جار ہاہے،	راورین کردل دہل جا تاہے ہر
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تخصے انثرف المخلوقات	بندکرد پھردعا کروکہاےاللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی	<u>سےاور تنقید و مذمت سے اور احتجاج و دعا</u>	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا	اورتم رقص وسرورکی بزم سجار ہے ہوہمیں	اسِرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تمہاری	بیت المقدّس کا نقدّس پامال کیا جار ہاہے، سرز مین اسراء ومعراج کوخون سے لالہ زارکہا جاریاہے،،	راورین کردل دہل جا تا ہے ہر نمیں بکھری پڑی ہوئی میں ہر ن ہی خون نظر آتا ہے اور چین
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تخصے اشرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچنے سیجھنے اور فیصلہ	بند کرد پھردعا کرو کہاےاللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور	سےاور ثقید و مذمت سے اور احتجاج و دعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے دقوف	مومن کے لئے ہے اور اس لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہمیں جس طرح سے آج برباد کیا جار ہاہےاور	اسرائیل ہم پر ظلم کررہا ہے لیکن تہاری آنکھیں بند ہیں تہاری زبان خاموش	بیت المقدّس کا نقدّس پامال کیا جار ہاہے، سرز مین اسراء ومعراج کوخون سے لالہ زارکہا جاریاہے،،	راورین کردل دہل جا تانیے ہڑ نیں بکھری پڑی ہوئی میں ہر ن ہی خون نظر آتا ہےاور چین
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے مخصے اشرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچنے سیجھے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تواس کا	بند کرد پھر دعا کرو کہا ےاللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بدر میں قدم رکھا لیتن جنگ کے	سےاور تنقید و مذمت سےاور احتجاج ودعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو	اورتم رقص دسر در کی بزم سجا رہے ہوہ ^ن میں جس طرح سے آج برباد کیا جار ہاہےاور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہاری آنگھیں بند ہیں تہاری زبان خاموش ہے،،غزہ کے شہداء کے خون کا ایک	بیت المقدس کا نقدس پامال کیا جارہا ہے، سرز مین اسراء ومعراج کوخون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری بستیاں جلائی جاربی	راورس کردل دہل جاتا ہے ہر نیں بکھری پڑی ہوئی میں ہر ن ہی خون نظرآ تا ہےاور چینی ہیں خاندان کا خاندان صاف
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تخصے انثرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچنے متبحصے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و	بند کرد پھردعا کرو کہاےاللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور	سےاور ثقید و مذمت سے اور احتجاج و دعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے دقوف	مومن کے لئے ہے اوراسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مومن نہیں لیعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ربّ العالمین سے اور اللہ نے	اورتم رقص وسرورکی بزم سجارہے ہوہتمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہےاور تم جس طرح خاموثق اختیار کئے ہوئے اور کچھ مسلم مما لک جس طرح منافقانہ	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تمہاری آتکھیں بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،،غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جار ہاہے، سرز مین اسراء ومعراج کوخون سے لالہ زار کیا جار ہاہے،، ہماری بستایں جلائی جارہی ہیں، ہماری نسل کشی کی جارہی، ہماراقل	راورس کردل دہل جاتا ہے ہر نیں بکھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن ہی خون نظرآ تا ہےاور چینیں ہیں خاندان کا خاندان صاف ہے گودیاں اجڑ رہی ہیں بیچے
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے مخصے اشرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچنے سیجھے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تواس کا	بند کرد پھر دعا کرو کہا ےاللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بدر میں قدم رکھا لیتن جنگ کے	سےاور تنقید و مذمت سےاور احتجاج ودعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ربّ العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تمہاری دعا رد	اورتم رقص وسرورکی بزم سجارہے ہوہمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہےاور تم جس طرح خاموق اختیار کئے ہوئے اور پچھ مسلم مما لک جس طرح منافقانہ کردارادا کررہے ہیں اوراسرائیل جیسے	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تمہاری آتکھیں بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،،غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی	بیت المقدس کا نقدس پامال کیا جار ہا ہے، سرز مین اسراء ومعراج کوخون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری بسل کشی کی جار ہی، ہماراقل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دشمن اسرائیل	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیس بکھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن ہی خون نظرآ تا ہےاور چینیں ہیں خاندان کا خاندان صاف ہے گودیاں اجڑ رہی ہیں بچے
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تخصے انثرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچنے متبحصے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و	بند کرو پھر دعا کرو کہا ےاللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بدر میں قدم رکھا لیتن جنگ کے میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقی کہ اے پروردگار میہ شھی بھر تیرے نام لیوا	سے اور تنقید و مذمت سے اور احتجاج ودعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے معجز ے کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کروتب معلوم ہوگا کہ	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ربّ العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہہاری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جوا پنی	اورتم رقص وسرورکی بزم سجارہے ہوہتمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پچھ مسلم مما لک جس طرح منافقانہ کردارادا کررہے ہیں اوراسرائیل جیسے خالم ملک کی مدد کررہے ہیں تاریخ کبھی	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آتکھیں بند ہیں تہہاری زبان خاموش ہے،،غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدرس کی تباہی نے بعدرتم محفوظ رہو گے کیا تہہاری	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جارہا ہے، سرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری بستایں جلائی جارہی ہیں، ہماری نسل کشی کی جارہی، ہماراقش عام کیا جارہا ہے، ہمارا دشمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا	راورسن کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بکھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن ہی خون نظرآ تا ہےاور چینیں ہیں خاندان کا خاندان صاف ہو گر اپنی اپنی باری کا انتظار
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تخصے انثرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچے سیجھے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور منجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ لشکر تر تیب دے	بند کرد پھر دعا کرو کہا ےاللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بدر میں قدم رکھا لیعنی جنگ کے میدان میں اتر کر اللہ تے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میں تھی بھر تیرے نام لیوا مسلمان ہیں ان کی مدد فرما،،	سے اور تنقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے محجز ے کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کروتب معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ربّ العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہماری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپنی حکومت اور دولت وعیش پرسی میں غرق	اورتم رقص وسرورکی بزم سجارہے ہوہ بمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموش اختیار کئے ہوئے اور کچھ مسلم مما لک جس طرح منافقانہ کردار ادا کررہے ہیں اور اسرائیل جیسے خالم ملک کی مدد کررہے ہیں تاریخ تجھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تمہاری آتکھیں بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،،غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور ہیت المقدس کی تباہی نے بعدتم محفوظ رہو کے کیا تمہاری حکومتیں	بیت المفترس کا نقدس پامال کیا جارہا ہے، مرز مین امراء ومعراج کوخون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری نسل کشی کی جارہی، ہمارا قتل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دیثمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پرتلا ہوا ہے اور جمیں	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بکھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن ہی خون نظرآ تا ہےاور چینیں ہیں خاندان کا خاندان صاف ہوکر اینی اینی بارود کے ڈھیر پر بلکہ پورافلسطین اینی آتکھوں
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقی انثرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچ سیجھے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور منجنیق تیار کر دفاعی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تہ ہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو نبھی	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میہ مطی بھر تیرے نام لیوا مسلمان بیں ان کی مدد فرما،،	سے اور تنقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے بوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مججزے کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کروتب معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے گی مگر سونے کی کار سے چلنے اور کہ سہ	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ربّ العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہہاری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جوا پنی حکومت اور دولت وعیش پرشی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جوا پنی قوم کے	اورتم رقص وسرورکی بزم سجارہے ہوہ تمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پچھ سلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردارادا کررہے ہیں اورا سرائیل چیسے خالم ملک کی مدد کررہے ہیں تاریخ تجھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بربریت کی حمایت کررہے ہو	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تمہاری آتکھیں بند میں تمہاری زبان خاموش ہے، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تباہی کے بعدتم محفوظ رہو کے کیا تمہاری میں اور	بیت المقدس کا نقدس پامال کیا جار ہا ہے، سرز مین اسراء ومعراج کوخون سے لالہ زار کیا جار ہا ہے،، ہماری بستایں جلائی جارتی ہیں، ہماری نسل شی کی جارتی، ہمارا قتل عام کیا جار ہا ہے، ہمارا دشمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا ہوا ہے اور ہمیں ہمار ے حذبات	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر میں بکھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن ہی خون نظرآ تا ہےاور چینیں ہیں خاندان کا خاندان صاف سے سب بارود کے ڈھیر پر ہوکر اپنی اپنی باری کا انتظار) بلکہ پورافلسطین اپنی آنھوں اکا منظرد کھر ہاہے نہ پناہ گزیں
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تخصے اشرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچنے متبحظے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ کشکر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان میں اتر جس طرح رسول کا نبات	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقی کہ مسلمان میں ان کی مدد فرما،، خود نبی پاک نے خندق کھودی اور بھوک و پیاس کا حال ہے تھا کہ	سے اور تنقید و مذمت سے اور احتجاج و دعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے معجز کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کروت معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے گی مگر سونے کی کار سے چلنے اور کہ سہ بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپنی حکومت اور دولت وعیش پرستی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپنی قوم کے بہتے ہوئے خون کا تماشہ دیکھے وہ مومن	اورتم رقص وسرورکی بزم سجارے ہوہ بمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پچھ مسلم مما لک جس طرح منافقانہ کردارادا کررہے ہیں اور اسرائیل جیسے ظالم ملک کی مدد کررہے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کررہے ہو یا بردل ہو چکے ہویا پھر دنیا کی عیش پر سی	اسرائیل نہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آئلھیں بند میں تہہاری زبان خاموش ہے،،غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدرس کی تاہی کے بعدتم محفوظ رہو کے کیا تہہاری حکومتیں اور تہہاری عیش	بیت المقدس کا نقدس پامال کیا جارہا ہے، سرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری بسل شی کی جارہی، ہماراقتل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دشمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا ہوا ہے اور جمیں مٹابھی رہا ہے	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن ہی خون نظرآ تا ہےاور چینیں بین خاندان کا خاندان صاف ہوکر اپنی اپنی باری کا انتظار ی بلکہ پورافلسطین اپنی آٹھوں کا منظرد کیورہاہے نہ پناہ گزیں رڑ اجارہاہے، نہ تعلیمی اداروں کو
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچن سیجھنے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور دہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان میں اتر جس طرح رسول کا ننات میدان جنگ میں اتر ے اس کے بعد غیبی	بند کرو پھرد عاکر و کہا ہے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بیر میں قدم رکھا یعنی جنگ کے میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقصی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقصی کہ مسلمان میں ان کی مدد فرما،، مصودی اور جھوک و پیاں کا حال مید تھا کہ پینے پر دود و پقر باند ھے اور اللہ سے دعا	سے اور تقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کوبے دقوف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مجموع کا اور نیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کروت معلوم ہوگا کہ نیبی مدد کب آئی ہے یقیناً نیبی مدد آئے گی مگر سونے کی کار سے چلنے اور کبسہ بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ربّ العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہماری دعا رد نہیں کی جائے گہا ہے کہ تمہاری دعا رد تہیں کی جائے گہا س کا مطلب کہ جوا پنی حکومت اور دولت وعیش پرشی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جوا پنی قوم کے نہیں، جو خال کم تر خاموش رہے اور	اورتم رقص وسرورکی بزم سجار ہے ہوہ تمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پچھ سلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردارادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے ظالم ملک کی مدد کرر ہے ہیں تاریخ تمجھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو ایک چر دنیا کی عیش پر سی میں غرق ہو چکے ہواور تاریخ اسلام سے	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آئل سی بند میں تہہاری زبان خاموش ہے،،غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تباہی نے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تہہاری حکومتیں اور تہہاری عیش رہیں گی کیا	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جارہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری سرائٹ کی جارہی، ہمارا قتل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دشمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا ہوا ہے اور ہمیں ہمارے جذبات	راورسن کر دل دہل جاتا ہے ہر نیس بھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن، ہی خون نظرآ تا ہے اور چینی بی خاندان کا خاندان صاف ہو کر اپنی ابڑ رہی ہیں بیچ ہو کر اپنی ابنی باری کا انتظار ی بلکہ پورافلسطین اپنی آنکھوں را جارہا ہے، نہ تعلیمی اداروں کو رہا ہے ، نہ اسپتالوں کو چھوڑا
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقی انترف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچ سیجھے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور شخینق تیار کر دفاعی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تہ ہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو تبھی میدان بنگ میں اتر جس طرح رسول کا منات میدان جنگ میں اتر اس کے بعد غیبی	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان بیں ان کی مدد فرما،، کھودی اور بھوک و پیاس کا حال ہے تھا کہ پیٹے پر دودود پھر باند ھے اور اللہ سے دعا کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال خ	سے اور تنقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف ہنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مجرح کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو فیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے گی مگر سونے کی کار سے چلنے اور کبسہ بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن سبحی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپی حکومت اور دولت وعیش پر سی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپی تو م ک نہیں، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور مظلوم کا ساتھ نہ دے وہ مومن نہیں اے	اورتم رقص وسرورکی بزم سجار ہے ہوہ بیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور کچھ سلم مما لک جس طرح منافقانہ کردارادا کررہے ہیں اور امرائیل جیسے خالم ملک کی مدد کررہے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم امرائیل کی بربریت کی حمایت کررہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو یا پھر دنیا کی میش پر تی منہ موڑ چکے ہو سیرت رسول اور سیرت	اسرائیل نہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آئل سی بند میں تہہاری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدر کی تاہی نے بعدتم محفوظ رہو کے کیا تہہاری تاہی نے بعدتم محفوظ رہو کے کیا تہہاری موت ایں مقدر اور تہماری عیش رہیں گی کیا صرف ندمت	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جارہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری سرایش کی جارہی، ہمارا قتل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دخمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان منانے پر تلا ہوا ہے اور ہمیں ہوا ہے اور ہمیں مارے جذبات ہمارے ارمانوں	راورسن کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن ہی خون نظر آتا ہے اور چینی بی خاندان کا خاندان صاف ہودیاں اجڑ رہی ہیں بچے بطے سب بارود کے ڈھیر پر بطے سب بارود کے ڈھیر پر برا جارہا ہے، نعلیمی اداروں کو رہا ہے ، نہ اسپتالوں کو چھوڑا ، نہ ساچد کوچوڑا جارہا ہے بلکہ
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقی انثرف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچ سیجھنے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفاعی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جو طریقہ تہمیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان جنگ میں اتر حال کے بعد غیبی مدد کے لئے لیکاریقیا تحقی فتح وکا مرانی حاصل ہوگی ،، ایک ظالم ملک مسلم مما لک	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقی کہ مسلمان میں اتر کی اللہ سے دعا کی تقی کہ چود نبی پاک نے خندق پیٹے پر دودو پھر باند سے اور اللہ سے دعا کی تقی اور آج کیا حال ہے ہر سال جح	سے اور تنقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے بوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقو ف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مججزے کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کر وتب معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقنیا غیبی مدد آئے مگر سونے کی کار سے چلنے اور کہ سہ بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے دعا اور بیت المقدس کی آزادی نے لئے دعا	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ربّ العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہہاری دعا رد نہیں کی جائے گہا ہے کہ تہہاری دعا رو نہیں کی جائے گہا سکا مطلب کہ جواپنی توم کے ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپنی توم کے نہیں ، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ تمیں جس طرح سے آج برباد کیا جار ہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پچھ سلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردار ادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے ظالم ملک کی مدد کرر ہے ہیں تاریخ تبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو ماریز چکے ہو ای چرد نیا کی عیش پر تی منہ موڑ چکے ہو اور تاریخ اسلام سے صحابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو بی چھی یا در کھو کہ	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آتکھیں بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک فلسطین کی بربادی اور ہیت المقدس کی تباہی نے بعدتم محفوظ رہو کے کیا تمہاری موت کی میں اور تقید اور دعا اور تقید اور دعا	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جارہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری جارہا ہے، ہمارا دہمن اسرائیل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دہمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا ہوا ہے اور جمیں مارے جذبات مارے جذبات	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بکھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن، ہی خون نظرآ تا ہے اور چینیں ہیں خاندان کا خاندان صاف ہیں خاندان کا خاندان صاف میں خاندان کا خاندان صاف ہیں خاندان کا خاندان صاف ہوکر اپنی این باری کا انتظار بہ میں بارود کے ڈھیر پر بہ مندار کھر ہا ہے نہ پناہ گزیں راجار ہا ہے ، نہ اسپتالوں کو چھوڑا اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقی انترف المخلوقات بندے میں نے تحقی انترف المخلوقات لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور مجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ انشکر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان جنگ میں اتر حاس کے بعد غیبی مدد کے لئے لکاریقیناً تحقی فتح وکا مرانی حاصل ہوگی، ایک ظالم ملک مسلم مما لک کی چو ہدی میں رہتے ہوئے مسلمانوں پ	بند کرد پھر دعا کر و کہا ہے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بدر میں قدم رکھا یعنی جنگ کے میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقصی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقصی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تقصی کہ کھودی اور بھوک و پیاس کا حال بید تھا کہ پی پر دود دو پھر باند ھے اور اللہ سے دعا کی تقصی اور آج کیا حال ہے ہر سال ج کہ موقع پر بھی دعا ہوتی ہے اور ہر سال	سے اور تنقید و مذمت سے اور احتجاج و دعا سے بوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقو ف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے معجزے کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کر وتب معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے مگر سونے کی کار سے چلنے اور کبسہ بریانی کھا کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا کرو گے تو وہ دعا ایک بالست سے او پر ہمی نہیں جائے گی، نمیبی مدد میدان بدر	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن سجعی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہہاری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپی حکومت اور دولت وعیش پر سی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپی تو م کے نہیں، جو خان کا تماشہ دیکھے وہ مومن نہیں ، جو خان کا تماشہ دیکھے وہ مومن ایل عرب اور اے مسلم حکمرانوں اب تم ایلے گریبان میں جھا نک کردیکھو کہ تہما را	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ بمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور کچھ سلم مما لک جس طرح منافقانہ کردارادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے خالم ملک کی مدد کرر ہے ہیں تاریخ کبھی محاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بربریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو یا پھر دنیا کی عیش پر سی منہ موڑ چکے ہو سرت رسول اور سیرت ہمیں بھر کی خرورت نہیں ہے بلکہ	اسرائیل نہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آئل نظری بیر بیس تہہاری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی علیمین کی بربادی اور بیت المقدس کی تاہی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تہہاری عربتیں اور تہہاری عیش مرف ندمت اور تقید اور دعا	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جارہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری ستای حماری کی جارہی، ہمارا قتل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دخمن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام و نشان مثانے پر تلا ہوا ہے اور ہمیں ہمارے جذبات ہمارے جذبات کو کچلا جارہا ہے، کو کچلا جارہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جارہا ہے، بچوں کو میتیم ہنایا جارہا ہے قلم و	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن ہی خون نظر آتا ہے اور چینی ہیں خاندان کا خاندان صاف ہو کر اپنی اپر رہی ہیں بچے ہو کر اپنی اپنی باری کا انتظار پر اجارہا ہے، نہ تعلیمی اداروں کو رہا ہے ، نہ اسپتالوں کو چھوڑ امرائیل کی جانب سے وحشیانہ کی جارہی ہے دس ہزار سے بھی پر ہم بر سا کران کا کل عام کیا
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور دہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی وارد ہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی میدان میں اتر جس طرح رسول کا کنات میدان جی اتر یقیناً تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے لئے لیکاریقیناً تحقیق فتح وکا مرانی حاصل ہوگی، ایک ظالم ملک مسلم مما لک کی چو ہدی میں رہتے ہوئے مسلمانوں پ کم برسائے 57 مسلم مما لک نے لئے	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میہ تھی بھر تیرے نام لیوا مسلمان بیں ان کی مدد فرما،، کھودی اور بھوک و پیاس کا حال میتھا کہ پیے پر دودود پھر باند ھے اور اللہ سے دعا کے موقع پر بھی دعا ہوتی ہے اور ہر سال مرمنان المبارک میں تر اوت کے کمل ہونے پر حرمین شریفین میں دعا کیں ہوتی	سے اور تنقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے بوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقو ف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مججزے کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کر وتب معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقنیا غیبی مدد آئے مگر سونے کی کار سے چلنے اور کہ سہ بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے دعا اور بیت المقدس کی آزادی نے لئے دعا	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہ ہاری دعا رد نہیں کی جائے گہا ہے کہ تہ ہاری دعا رد تہیں کی جائے گہا سکا مطلب کہ جواپنی حکومت اور دولت وعیش پر تی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپنی تو م کے نہیں ، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم ایل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم ایک کر دیکھو کہ تہ ہا را	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ بمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خامو شی افتیار کئے ہوئے اور پچھ سلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردار ادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو مارئیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے میں غرق ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے صحابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو بہ یہ کی یا در طور کہ محابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو بہ یہ کی یا در طور کہ دفاعی طاقت کی ضرورت ہے اور تم دفاعی	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آئل بند میں تہباری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تابی کے بعدتم محفوظ رہو کے کیا تہباری تبہاری عیش مربی کی تیا اور تنقید اور دعا ترین کے لئے تم ہمیں تہا چھوڑ دو گے؟	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جارہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری ستای حکومی کی جارہی، ہمارا قتل عام کیا جارہا ہے، ہمارا دشن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا ہوا ہے اور ہمیں ہوا ہے اور ہمیں محارب جذبات مارے ارمانوں کا گلا گھوننا جارہا ہے،عورتوں کو بیوہ کیا	راورسن کر دل دہل جاتا ہے ہر نیس بھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن ہی خون نظر آتا ہے اور چینی بی خاندان کا خاندان صاف ہو کر اینی این باری کا انتظار بطے سب بارود کے ڈھیر پر بوکر اینی اینی باری کا انتظار یا بلکہ پورافلسطین اینی آتھوں کا منظر دیکھر ہاہے نہ پناہ گزیں منہ ساجد کو چھوڑ اجار ہا ہے بلکہ رامرائیل کی جانب سے وحشیانہ کی جارہی ہے دس ہزار سے بھی ک پر ہم بر سا کر ان کا کل عام کیا
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقی انترف المخلوقات بنایا ، انسان بنایا سوچ سیجھے اور فیصلہ لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور منجنی تیار کر دفاعی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ انتگر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تہمیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو نبھی میدان میں اتر جس طرح رسول کا ننات مدد کے لئے لکاریقیا تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے لئے لکاریقیا تحقیق فتح وکا مرانی حاصل ہوگی ، ایک ظالم ملک مسلم مما لک کی چو ہدی میں رہتے ہوئے مسلمانوں پ بم برسائے 57 مسلم مما لک کے لئے	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بیر میں قدم رکھا یعنی جنگ کے میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں ان کی مدفر ما،، کھودی اور بھوک و پیاس کا حال ہے تھا کہ پیے پر دودو پھر باند سے اور اللہ سے دعا کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال خ کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال خ مونے پر حرین شریفین میں دعا کیں ہوتی ہیں جس میں اسرائیل کی تباہی کا بھی ذکر	سے اور تنقید و مذمت سے اور احتجاج و دعا سے بوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقو ف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے معجزے کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو ذرا تاریخ کا مطالعہ کر وتب معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے مگر سونے کی کار سے چلنے اور کبسہ بریانی کھا کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا کرو گے تو وہ دعا ایک بالست سے او پر ہمی نہیں جائے گی، نمیبی مدد میدان بدر	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہماری دعا رو نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپنی حکومت اور دولت وعیش پرشی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپنی قوم کے نہیں، جو خالم کے ظلم پر خاموش رہاور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم اپنے گریبان میں جھا تک کر دیکھو کہ تہا را شارکن لوگوں میں کیا جاری دنیا کا مسلمان	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ بمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پچھ سلم مما لک جس طرح منا فقا نہ کردارادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بردل ہو چکے ہو یا پھر دنیا کی عیش پر سی منہ موڑ چکے ہو سیرت رسول اور سیرت محابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو یہ بھی یا در کھو کہ محابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو یہ بھی یا در کھو کہ منہ موڑ چکے ہو سیرت رسول اور سیرت میں بھیک کی ضرورت ہے اور تم دفا تی طاقت میں ہو سکتے تو	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہہاری آئل بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تاہی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تہہاری تاہی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تہماری تاہی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تہماری اور تین کی کیا تہماری میت اور تاہی خریبے کے لئے تم ہمیں تہا چھوڑ دو گے؟ اے اہل عرب اور اے مسلم حکمرانوں یاد	بیت المفترس کا نقدس پامال کیا جار ہاہے، مرز مین اسراء ومعران کو خون سے لالہ زار کیا جار ہاہے،، ہماری نسل کشی کی جارتی، ہمارا قتل عام کیا جار ہاہے، ہمارا دیثن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا مواج اور جمیں ہوا ہے اور جمیں ہوا ہے اور جمیں ہوا ہے اور جمیں مارے جذبات مارے ارمانوں کو کچلا جار ہاہے، عورتوں کو بیوہ کیا جار ہا ہے، بچوں کو میں نہا چار ہا ہے لیکن کچر تھی تر کیوں جمیں نہا چوڑ دیا	را درسن کر دل دہل جاتا ہے ہر نمیں بھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن ہی خون نظر آتا ہے اور چینی) میں خاندان کا خاندان صاف ہو کر اپنی اجڑ رہی ہیں بچے ، موکر اپنی اچی باری کا انتظار ، ملکہ پورافلسطین اپنی آتکھوں یا منظر دیکھرہا ہے نہ پناہ گزیں ، نہ مساجد کو چھوڑا جارہا ہے بلکہ را ارائیل کی جانب سے دخشیانہ ک جارہی ہے دس ہزار سے بھی ں پر ہم بر ساکران کا کل عام کیا
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ انشکر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان جنگ میں اتر حاس کے لیک مدد کے لئے لکاریقینا تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے لئے لکاریقینا تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے تاکی حسلم مما لک کے لئے کی چو ہدی میں رہتے ہوئے مسلمانوں پر اور اہل اسلام و بالخصوص اہل عرب کے	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میہ تھی بھر تیرے نام لیوا مسلمان بیں ان کی مدد فرما،، کھودی اور بھوک و پیاس کا حال میتھا کہ پیے پر دودود پھر باند ھے اور اللہ سے دعا کے موقع پر بھی دعا ہوتی ہے اور ہر سال مرمنان المبارک میں تر اوت کے کمل ہونے پر حرمین شریفین میں دعا کیں ہوتی	سے اور تنقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے دقوف ہنار ہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مجموع کا اور نبیمی مدد کا انتظار کرر ہے ہو فنیمی مدد کب آئی ہے یقیناً نیبی مدد آئے گی مگر سونے کی کار سے چلنے اور کبسہ کی مگر سونے کی کار سے چلنے اور کبسہ ریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا تھی نہیں جائے گی، نمیبی مدد میدان بدر میں آئی اور جنگ خندق میں آئی جب	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن سبحی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللّٰدربّ العالمین سے اور اللّٰد نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہماری دعا رو نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جوا پنی حکومت اور دولت وعیش پرسی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جوا پنی قوم کے نہیں، جو خان کا تماشہ دیکھے وہ مومن نہیں ایل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم مطلوم کا ساتھ نہ دے وہ مومن نہیں اے ایل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم اپنے گریبان میں جھا نک کر دیکھو کہ تہما را شارکن لوگوں میں کیا جائے گا،، فلسطین نے مسلمانوں نے لئے دعا میں	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ بیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اغتیار کئے ہوئے اور پچھ سلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردار ادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے میں غرق ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے محابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو بید یعی یا در کھو کہ محابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو دین کی میں ہے بلکہ صحابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو دین میں ہو کہ کہ دفاعی طاقت کی مرورت نہیں ہو سکتے تو طاقت میں ہمارے لئے دعا کرنے کا بھی چق	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہباری آتک طی بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تابی کے بعد تم محفوظ رہو کے کیا تمہاری تبہاری عیش مربی گی کیا ہماری عیش مربی گی کیا اور تنقید اور دعا تربیخ کے لئے تم ہمیں تہا چھوڑ دو گے؟ رکھو چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ رکھو چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جارہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جارہا ہے،، ہماری ستای حارث کو خون سے لالہ ہماری جارہا ہے، ہمارا دشن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام و نشان مٹانے پر تلا موا ہے اور ہمیں ہوا ہے اور ہمیں ہوا ہے اور ہمیں کو کچلا جارہا ہے، حارے ارمانوں کا گلا گھونٹا جارہا ہے،عورتوں کو بیوہ کیا جارہا ہے، بچوں کو نیکا ناج نا چا جارہا ہے	راورس کر دل دبل جاتا ہے ہر نیں بھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن ہی خون نظر آتا ہے اور چینی ہیں خاندان کا خاندان صاف ہیں خاندان کا خاندان صاف ہوکر اپنی این باری کا انتظار یہ بلکہ پورافلسطین اپنی آتھوں ی بلکہ پورافلسطین اپنی آتھوں ی بلکہ پورافلسطین اپنی تکھوں ی جاربی ہے منہ تعلیمی اداروں کو اسرائیل کی جانب سے وحشانہ ی پر بم بر ساکران کا تل عام کیا ی بہاری میں شہید ہو چکے اس بمباری میں شہید ہو چکے
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور دہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی فوت کو تر تیب دے وہ انگر تر تیب دے پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان میں اتر جس طرح رسول کا کنات مدد کے لئے لکار یقیناً تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے لئے لکار یقیناً تحقیق فتح وکا مرانی کی چوہدی میں رہتے ہوئے مسلما لوں پر اور اہل اسلام و بالحضوص اہل عرب کے لئے لیے قاررینہیں تو اور کیا ہے، مظلوم تے ہمدردی بھی اور ظالم سے یا دانہ بھی	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان بیر میں قدم رکھا یعنی جنگ کے میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں ان کی مدفر ما،، کھودی اور بھوک و پیاس کا حال ہے تھا کہ پیے پر دودو پھر باند سے اور اللہ سے دعا کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال خ کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال خ مونے پر حرین شریفین میں دعا کیں ہوتی ہیں جس میں اسرائیل کی تباہی کا بھی ذکر	سے اور تنقید و ندمت سے اور احتجاج و دعا سے بوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقو ف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے فر اتاریخ کا اور غیبی مدد کا انتظار کررہے ہو نیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے گر سونے کی کار سے چلنے اور کہ سہ بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا کرو گے تو وہ دعا ایک بالست سے اوپ میں آئی اور جنگ خندق میں آئی جب منبر سے کہا کہ یا سارء الجبل تو غیبی مدد	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن سجسی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے اور اللہ نے مومن کے لئے کہا ہے کہ تہماری دعا رد نہیں کی جائے گہا ہے کہ تہماری دعا رد حکومت اور دولت وعیش پر سی میں غرق ہوجاتے وہ مومن نہیں ، جواپنی قوم ک ہوجاتے وہ مومن نہیں ، جواپنی قوم ک نہیں، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم شارکن لوگوں میں کیا جائے گا،، شارکن لوگوں میں کیا جائے گا،، فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا ئمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا ئمیں	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ بیں جس طرح سے آج برباد کیا جار ہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پچھ سلم مما لک جس طرح منا فقا نہ کردار ادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بردل ہو چکے ہو یا پھر دنیا کی عیش پر سی منہ موڑ چکے ہو یہ جو یہ جمی یا در طوا کہ محابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو یہ جمی یا در طوا کہ محابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو یہ جمی یا در طوا کہ متہ موڑ چکے ہو یہ جس یہ بلکہ صحابہ سے ناطہ تو ٹر چکے ہو یہ جمی ہو یہ تو دفاعی طاقت کی ضرورت ہے اور تم دفاعی طاقت میں ہمارے لئے دعا کرنے کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ ہم زندہ ہیں اور تم دفا ج	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہباری آئل بند میں تہباری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تابقی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تہباری تابقی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تہباری تابقی اور تربیں گی کی کیا تربیں گی کیا تربین کے لیے تم تہیں تبا چھوڑ دو گے؟ السلام کی اؤٹنی کا قتل کیا تھا گر سزا پوری	بیت المفترس کا نقدس پامال کیا جار ہاہے، مرز مین اسراء ومعران کو خون سے لالہ زار کیا جار ہاہے،، ہماری نسل کشی کی جارتی، ہمارا قتل عام کیا جار ہاہے، ہمارا دیثن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مٹانے پر تلا مواج اور جمیں ہوا ہے اور جمیں ہوا ہے اور جمیں ہوا ہے اور جمیں مارے جذبات مارے ارمانوں کو کچلا جار ہاہے، عورتوں کو بیوہ کیا جار ہا ہے، بچوں کو میں نہا چار ہا ہے لیکن کچر تھی تر کیوں جمیں نہا چوڑ دیا	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن بہی خون نظر آتا ہے اور چینی ہیں خاندان کا خاندان صاف ہو کر اپنی اپڑ رہی ہیں بچے بھر اپنی اپنی باری کا انتظار بہلکہ پورافلسطین اپنی آنکھوں بالمار پر اپنی باری کا انتظار رہا ہے ، نہ اسپتالوں کو چھوڑا رامار تیل کی جانب سے وحشیانہ کی بیسلسلہ جاری ہے تقریباً پاچ کی بیسلسلہ جاری ہے تقریباً پاچ کہ ہماری میں شہید ہو چک اس بمباری میں شہید ہو چک س بر ماروں کے ڈھیر میں تبدیل
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ انشکر تر تیب دے اور وہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان جنگ میں اتر حاس کے لیک مدد کے لئے لکاریقینا تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے لئے لکاریقینا تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے تاکی حسلم مما لک کے لئے کی چو ہدی میں رہتے ہوئے مسلمانوں پر اور اہل اسلام و بالخصوص اہل عرب کے	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میہ مصلی بھر تیرے نام لیوا مسلمان بیں ان کی مدد فرما،، کھودی اور بھوک و پیاس کا حال مید تھا کہ پیپ پر دودود پھر باند ھے اور اللہ سے دعا کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال خ کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال خ ہونے پر حرمین شریفین میں دعا کمیں ہوتی ہوتا ہے اور بیت المقدس کی آزادی کی بھی دعا ہوتی ہے مگر اسرائیل دن دوگنی	سے اور تقید و ندمت سے اور احتجاج دو ما سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے دقوف ہنار ہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مجرح کا اور نیبی مدد کا انتظار کرر ہے ہو ندرا تاریخ کا مطالعہ کروت معلوم ہوگا کہ نیبی مدد کب آئی ہے یقیناً نیبی مدد آئے میں مد کب آئی ہے یقیناً نیبی مدد آئے بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا کرو گے تو دو دعا ایک بالست سے اوپ میں آئی اور جنگ خندق میں آئی جب منبر سے کہا کہ یا سارء الجبل تو نیبی مدد سے ان کی آواز اسلامی لشکرتک پیچی اس	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن سبحی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو مومن کے لئے کہا ہے کہ تہ ہاری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپنی حکومت اور دولت وعیش پر شی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپنی قوم کے نہیں ، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم مطلوم کا ساتھ نہ دے وہ مومن نہیں اے نہیں ، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم شارکن لوگوں میں کیا جائے گا،، فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا ئیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس دوسر اکوئی وسائل نہیں ہے حکمر اے مسلم حکمر انوں	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ جمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموش افتیار کئے ہوئے اور کچھ سلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردار ادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے میں غرق ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو بید یعی یا در کھو کہ محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دیا کی عیش پر تی محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دیا کی عیش پر تو محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو اور تاریخ اسلام سے محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دیا ہی یا کہ تیں پر تو محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دین میں سے بلکہ محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دین میں ہو کتے تو طاقت میں ہمار سے لئے دعا کر نے کا بھی چن نہیں ہے کیونکہ ہم زندہ ہیں اور تم بطا ہر زندہ ہو لیکن حقیقت میں مر چکے ہو لیونی	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہباری آتکھیں بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تابی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تمہاری تبہاری عیش تربین کی بربادی میش اور تنقید اور دعا اور تنقید اور دعا تربیخ کے لئے تم ہمیں تہا چھوڑ دو گے؟ السلام کی اوٹنی کا قتل کیا تھا مگر سزا پوری قوم کو ملی کیوں اس لئے کہ پوری قوم	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جار ہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جار ہا ہے،، ہماری ستال کشی کی جار ہی، ہمارا قتل عام کیا جار ہا ہے، ہمارا دشن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مثانے پر تلا موا ہے اور ہمیں ہمارے جذبات ہمارے حذبات کو کچلا جار ہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہمارے ارمانوں کا گلا گھونٹا جار ہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے جار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے خار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے خار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے خار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے ار اہل اسلام کا دردنہیں ہے کیا ہیت اور اہل اسلام کا دردنہیں ہے کیا ہیت	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بھری پڑی ہوئی ہیں ہر ن بہی خون نظر آتا ہے اور چینی بی خاندان کا خاندان صاف بی خاندان کا خاندان صاف ہوکر اپنی اپنی بارد کے ڈھیر پر بطے سب بارود کے ڈھیر پر بطے سب بارود کے ڈھیر پر برا جارہا ہے، نہ تعلیمی اداروں کو دراج ہے، نہ اسپتالوں کو چھوڑ ا دہا ہے، نہ اسپتالوں کو چھوڑ ا رہا ہے، نہ اسپتالوں کو چھوڑ ا اسرائیل کی جانب سے وحشیا نہ کی ہیں بر میں اس کی ہی ہو چکے سے ماہوں کے ڈھیر میں تبدیل
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور دہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی فوت کو تر تیب دے وہ انگر تر تیب دے پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان میں اتر جس طرح رسول کا کنات مدد کے لئے لکار یقیناً تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے لئے لکار یقیناً تحقیق فتح وکا مرانی کی چوہدی میں رہتے ہوئے مسلما لک کہ برسائے 57 مسلم مما لک کے لئے لئے لیح قکارین ہیں تو اور کیا ہے، مظلوم اور اہل اسلام و بالحقوص اہل عرب کے تے مدردی بھی اور ظالم سے یا دانہ بھی	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما،،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں ان کی مدوفر ما،، کھودی اور بھوک و پیاس کا حال میتھا کہ پیے پر دودو پھر باند سے اور اللہ سے دعا کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال تح بونے پر جرمین شریفین میں دعا کہ میں ہوتی ہوتا ہے اور بیت المقدس کی آزادی کی ہوتا تہ اور بیت المقدس کی آزادی کی اور رات چو گئی ترقی کرتا چار ہا ہے آخر	سے اور تقید و ندمت سے اور احتجاج دو ما سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقو ف بنارہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے فررا تاریخ کا مطالعہ کر وتب معلوم ہوگا کہ غیبی مدد کب آئی ہے یقیناً غیبی مدد آئے ٹی مگر سونے کی کار سے چلنے اور کبسہ بریانی کھا کر اسرائیل کے مشر وبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا کرو گے تو وہ دعا ایک بالست سے اوپ میں آئی اور جنگ خندق میں آئی جب منبر سے کہا کہ یا سارء الجبل تو غیبی مدد منبر سے کہا کہ یا سارء الجبل تو غیبی مدد سے ان کی آواز اسلامی لینکر تک پینچی اس	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن سبحی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو مرف نے لئے کہا ہے کہ تہماری دعا رو نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپنی مومن کے لئے کہا ہے کہ تمہاری دعا رو نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپنی محومت اور دولت وعیش پرشی میں غرق نہیں، جو خان کا تماشہ دیکھے وہ مومن نہیں، جو خان کا تماشہ دیکھے وہ مومن نہیں، جو خان کا تماشہ دیکھے وہ مومن اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم مظلوم کا ساتھ نہ دے وہ مومن نہیں اے نہیں کہ دیکھو کہ تہا را اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم اپنے گریبان میں حیا تک کر دیکھو کہ تہا را فلسطین کے مسلمانوں نے لئے دعا تیں وسائل نہیں ہے مگر اے مسلم حکمر انوں تمارے پاس طاقت ہے فوج ہے جنگی	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ بمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموشی اختیار کئے ہوئے اور پڑھ مسلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردار ادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو ای پھر دنیا کی عیش پر تی میں غرق ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے محابہ سے ناطرتو ڈچکے ہو بیچی یا در کھو کہ محابہ سے ناطرتو ڈچکے ہو دینی کی عیش پر تی محابہ سے ناطرتو ڈچکے ہو دینی کی عیش پر تی محابہ سے ناطرتو ڈچکے ہو دینی کی بادر کھو کہ محابہ سے ناطرتو ڈچکے ہو دینیں ہو کی تو دفاعی طاقت میں ہمار ہے معاون نہیں ہو سکتے تو نہیں ہے کیونکہ ہم زندہ ہیں اور تم اظاہر زندہ ہو لیکن حقیقت میں مرچکے ہو لیچن جس کی غیرت مرجائے جس کا ضمیر مر	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہباری آئل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہباری ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تم سے سوال کررہا ہے کہ کیا فلسطین کی بربادی اور ہوتے کیا تہباری تبہاری عیش تربیت کے بعد تم محفوظ رہوتے کیا تہباری مزہباری عیش تربیت کے لیے تم ہمیں نہا چھوڑ دوئے؟ السلام کی اوٹر کا قتل کیا تھا گر سزا پوری قوم کو ملی کیوں اس لئے کہ پوری قوم خاموش تھی اور آج تم اسرائیل کی خاموش تھی اور آج تم اسرائیل کی	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جار ہا ہے، مرز مین اسراء و معراج کو خون سے لالہ زار کیا جار ہا ہے،، ہماری سل کشی کی جار ہی، ہمارا قتل عام کیا جار ہا ہے، ہمارا دیمن اسرائیل فلسطین سے ممارا نام ونثان مٹانے پر تلا موا ہے اور جمیں ہوا ہے اور جمیں مار کے جذبات مار کے ارمانوں کو کچلا جار ہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا مار ہے، بچوں کو میٹی منایا جار ہا ہے، ظلم و جار ہا ہے، بچوں کو میٹی منایا جار ہا ہے، ظلم و الرہا ہے، بچوں کو میٹی منایا جار ہا ہے، ظلم و کی ن کچر میں تنہا چھوڑ دیا الر اہل اسلام کا درد نہیں ہے کیا بیت المقدس کی آزادی کا جذبتہیں ہے؟	راورسن کردل دہل جاتا ہے ہر نمیں بھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن، ہی خون نظر آتا ہے اور چینی پی خاندان کا خاندان صاف ہوکر اپنی اپنی باری کا انتظار یہ ملکہ پورافلسطین اپنی آتکھوں کا منظر دیکھر ہاہے نہ پناہ گزیں رہاہے ، نہ اسپتالوں کو چھوڑا راہرائیل کی جانب سے وحشیانہ کی جارہی ہے دس ہزار سے بھی ل پر بم برسا کران کاقل عام کیا کی پیسلہ جاری ہے تقریباً پانچ
دل میں سنائی دے گی کہ اے میرے بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات بندے میں نے تحقیح انثرف المخلوقات لینے کے لئے دل ود ماغ عطا کیا تو اس کا استعال کر اور نجنیق تیار کر دفا عی نظام و قوت کو تر تیب دے وہ اشکر تر تیب دے اور دہ طریقہ اختیار کر جوطریقہ تمہیں نبی پاک نے بتایا ہے اور اس طرح تو بھی میدان میں اتر جس طرح رسول کا کنات مدد کے لئے لکار یقیناً تحقیق فتح وکا مرانی مدد کے لئے لکار یقیناً تحقیق فتح وکا مرانی کی چو ہدی میں رہتے ہوئے مسلمانوں پر اور اہل اسلام و بالحفوص اہل عرب کے لئے لئے جگر ینہیں تو اور کیا ہے، مظلوم اور اہل اسلام و بالحفوص اہل عرب کے اور اللہ سے دعا بھی یہ منافقت نہیں تو اور	بند کرو پھر دعا کرو کہ اے اللہ میرے مال و اسباب کی حفاظت فرما، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ تیار کیا اور میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ میدان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں اتر کر اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان میں ان کی مدد فرما،، کود دی پاک نے خندق پیپ پر دود دو پھر باند ھے اور اللہ سے دعا کی تھی اور آج کیا حال ہے ہر سال ج کو نے پر حمین شریفین میں دعا کیں ہوتی ہوتے ہر حمین شریفین میں دعا کہ کر ہوتا ہے اور بیت المقدس کی آزادی کی ہوں ، ہوتا ہے اور بت المقدس کی آزادی کی اور رات چو گئی تر تی کرتا جارہا ہے آخ کیوں،، ہو کو کر نے کا مقام ہے کہ ہم	سے اور تقید و ندمت سے اور احتجاج دو ما سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے دقوف ہنار ہے ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے مجرح کا اور نیبی مدد کا انتظار کرر ہے ہو ندرا تاریخ کا مطالعہ کروت معلوم ہوگا کہ نیبی مدد کب آئی ہے یقیناً نیبی مدد آئے میں مد کب آئی ہے یقیناً نیبی مدد آئے بریانی کھا کر اسرائیل کے مشروبات کولڈرنگ پی کر اسرائیل کی بربادی کیلئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعا کرو گے تو دو دعا ایک بالست سے اوپ میں آئی اور جنگ خندق میں آئی جب منبر سے کہا کہ یا سارء الجبل تو نیبی مدد سے ان کی آواز اسلامی لشکرتک پیچی اس	مومن کے لئے ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو ڈرگیا وہ مومن نہیں یعنی مومن سبحی ڈرتا ہی نہیں ہے وہ ڈرتا ہے تو مومن کے لئے کہا ہے کہ تہ ہاری دعا رد نہیں کی جائے گی اس کا مطلب کہ جواپنی حکومت اور دولت وعیش پر شی میں غرق ہوجائے وہ مومن نہیں ، جواپنی قوم کے نہیں ، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم مطلوم کا ساتھ نہ دے وہ مومن نہیں اے نہیں ، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے اور اہل عرب اور اے مسلم حکمر انوں اب تم شارکن لوگوں میں کیا جائے گا،، فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا ئیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس دوسر اکوئی وسائل نہیں ہے حکمر اے مسلم حکمر انوں	اورتم رقص وسرور کی بزم سجار ہے ہوہ جمیں جس طرح سے آج برباد کیا جارہا ہے اور تم جس طرح خاموش افتیار کئے ہوئے اور کچھ سلم مما لک جس طرح منا فقانہ کردار ادا کرر ہے ہیں اور اسرائیل جیسے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یا تو تم اسرائیل کی بر بریت کی حمایت کرر ہے ہو یا بزدل ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے میں غرق ہو چکے ہو اور تاریخ اسلام سے محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو بید یعی یا در کھو کہ محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دیا کی عیش پر تی محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دیا کی عیش پر تو محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو اور تاریخ اسلام سے محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دیا ہی یا کہ تیں پر تو محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دین میں سے بلکہ محابہ سے ناطر تو ٹر چکے ہو دین میں ہو کتے تو طاقت میں ہمار سے لئے دعا کر نے کا بھی چن نہیں ہے کیونکہ ہم زندہ ہیں اور تم بطا ہر زندہ ہو لیکن حقیقت میں مر چکے ہو لیونی	اسرائیل ہم پرظلم کررہا ہے لیکن تہباری آتکھیں بند میں تمہاری زبان خاموش ہے،، غزہ کے شہداء کے خون کا ایک فلسطین کی بربادی اور بیت المقدس کی تابی کے بعدتم محفوظ رہو گے کیا تمہاری تبہاری عیش تربین کی بربادی میش اور تنقید اور دعا اور تنقید اور دعا تربیخ کے لئے تم ہمیں تہا چھوڑ دو گے؟ السلام کی اوٹنی کا قتل کیا تھا مگر سزا پوری قوم کو ملی کیوں اس لئے کہ پوری قوم	بیت المفترس کا نقد س پامال کیا جار ہا ہے، مرز مین اسراء ومعراج کو خون سے لالہ زار کیا جار ہا ہے،، ہماری ستال کشی کی جار ہی، ہمارا قتل عام کیا جار ہا ہے، ہمارا دشن اسرائیل فلسطین سے ہمارا نام ونشان مثانے پر تلا موا ہے اور ہمیں ہمارے جذبات ہمارے حذبات کو کچلا جار ہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہمارے ارمانوں کا گلا گھونٹا جار ہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے جار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے خار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے خار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے خار ہا ہے، بچوں کو یتھ باج جار ہا ہے ار اہل اسلام کا دردنہیں ہے کیا ہیت اور اہل اسلام کا دردنہیں ہے کیا ہیت	راورس کر دل دہل جاتا ہے ہر نیں بھری پڑی ہوتی ہیں ہر ن بہی خون نظر آتا ہے اور چینی بہی خاندان کا خاندان صاف ہوکر اپنی اپنی باری کا انتظار بطح سب بارود کے ڈھیر پر بطح سب بارود کے ڈھیر پر برا جار ہا ہے، نتعلیمی اداروں کو را جار ہا ہے، نتعلیمی اداروں کو برا جار ہی جانب سے وحشیانہ کی بید سلہ جاری ہے تقریباً پاچی کی بید سلہ جاری ہے تقریباً پاچی س بی ماری میں شہید ہو چیکے س بی جار کی والی دیکھنے کو میں س ایس ایس ویڈ یو دیکھنے کو میں پر ایس ایس ویڈ یو دیکھنے کو میں